

سٹی آف برامپٹن، اکتوبر کے مہینے کو جوش و خروش سے 'سماں بزنس منتھ' کے طور پر منا رہا ہے

برامپٹن، آن (1 اکتوبر 2021) – اکتوبر چھوٹے کاروباری اداروں کا مہینہ ہے اور سٹی آف برامپٹن اپنے چھوٹے مقامی کاروباری اداروں کی خوشیوں کو مناتا ہے جن کے تصورات، جذبے اور عزم سے ہمیں اپنی کمیونٹی کو مسابقتی اور خوشحال بنانے میں مدد ملتی ہے۔

اکتوبر کے پورے مہینے کے دوران، برامپٹن انٹرپرائیور سینٹر ((BEC، اکنامک ڈیولپمنٹ آفس کے حصے کے طور پر مقامی کاروباری کمیونٹی کے لیے ورچوئل پروگرامنگ اور نیٹ ورکنگ کی تقریبات کے ایک مکمل شیڈول کی میزبانی کر رہا ہے جس میں مارکیٹنگ، ڈیزائن ٹولز، بک کیپنگ، انکارپوریٹنگ اور ان جیسے دیگر بہت سے موضوعات شامل ہیں۔ مزید تفصیلات اور اس موقع کی رجسٹریشن کے بارے میں مزید معلومات www.brampton.ca/BEC پر دیکھی جا سکتی ہے۔

اکتوبر کے مہینے اور اس کے علاوہ سماں بزنس منتھ کے حوالے سے، BEC ایک بزنس مائل سٹون پروگرام کا آغاز بھی کر رہا ہے۔ دس یا اس سے کم ملازمین کے حامل چھوٹے کاروباری ادارے جنہوں نے کووڈ-19 وباء کے دوران حوصلے اور لچک کا مظاہرہ کیا ہے، ہم ان کی خوشی میں ایک سالانہ موقع یا سنگ میل منا رہے ہیں یا پھر انہیں دعوت دے کر ایک منفرد کام کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنی داستان کو BEC کے ساتھ bec@brampton.ca پر شیئر کریں۔

کامیاب چھوٹے کاروبار ایک پھلتے پھولتے شہر کے لیے انتہائی ضروری ہیں، جس سے ملازمتیں پیدا کرنے، معیشت کو فروغ دینے اور مقامی علاقوں کو فروغ ملتا ہے۔ برامپٹن کی کمیونٹی کو کووڈ-19 نے بہت متاثر کیا ہے اور چھوٹے کاروبار، جو کسی بھی شہر کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اس وباء سے خصوصی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔

رہائشیوں کی مقامی مال و خدمات تلاش کرنے، منتخب کرنے اور خریدنے اور مندرجہ ذیل تجاویز کو ذہن میں رکھنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے:

- مقامی کاروباری اداروں کی حمایت کریں اور سوشل میڈیا پر اپنے پسندیدہ مقامات کو فروغ دینے پر غور کریں! برامپٹن کے مقامی کاروباری اداروں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لیے [سیورٹ لوکل برامپٹن ویب سائٹ](#) ملاحظہ کریں۔ دوسروں کو حوالہ دینے کے لیے ان پر آن لائن تبصرے چھوڑیں۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے مقامی کاروباری اداروں کے ساتھ وابستہ رہیں اور سپورٹ لوکل گرافک اور بیش ٹیگ #SupportLocalBrampton کا استعمال کرتے ہوئے برامپٹن کے کاروباری اداروں کی حمایت کا اظہار کریں۔ سپورٹ لوکل میڈیا پیک [یہاں](#) سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔
- برامپٹن فوڈ گائیڈ کے ساتھ برامپٹن میں موجود تمام مسٹ-ایٹ-سپاٹس کی کھوج لگائیں، اپنی کاپی [یہاں](#) سے ڈاؤن لوڈ کریں۔
- آپ کے من پسند مقامی کاروباری ادارے کھلے ہوئے ہیں، اندر بیٹھ کر کھانے پینے اور دیگر بہت سے کاموں کے لیے جیمز، ہیئر سیلونز اور ریسٹورینٹس میں داخل ہونے کے لیے انہیں ویکسین کی رسید دکھائیں اور ماسک پہن کر جائیں!
- زبانی حوالہ جات کے ذریعے اپنے دوستوں اور فیملی کو بتائیں۔

مقامی کاروباروں کی معاونت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے [سیورٹ لوکل برامپٹن ویب سائٹ](#) ملاحظہ کریں۔

معاشی بحالی کی حکمت عملی اور مقامی کاروباروں کی معاونت

وباء کے آغاز سے ہی سٹی اپنی چھوٹی کاروباری کمیونٹی کی بحالی اور ان کے لیے لچک پیدا کرنے کی حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ مئی 2020 میں برامپٹن سٹی کونسل نے [اکنامک ریکوری سٹریٹیجی](#) کی توثیق کر دی تھی تاکہ مقامی معیشت کو

بحالی اور تعمیر نو کے کاموں میں معاونت فراہم کی جائے اس حکمت عملی کا مقصد برامپٹن کی معیشت کو اس کے چار بنیادی ستونوں: اختراع، ٹیکنالوجی اور انٹرپرائیور شپ، سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچے اور فنون لطیفہ، ثقافت اور سیاحت کے شعبوں میں فوری اور طویل مدتی اقدامات پر پیش رفت کرتے ہوئے لچک اور مسابقتی فائدہ پہنچانا ہے۔

اقتباسات

"اس شمال بزنس منتھ کے دوران، ہمیں اپنے مقامی چھوٹے کاروباری اداروں کی اہمیت کو تسلیم کرنے پر فخر ہے جو کردار، ملازمتوں، مسابقت اور خوشحالی سمیت ہماری کمیونٹی میں مزید بہت کچھ لانے کا سبب بنتے ہیں۔ میں برامپٹن کے تمام رہائشیوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ نہ صرف اکتوبر کے مہینے میں بلکہ ہمیشہ کے لیے اور خاص طور پر کووڈ-19 وباء کی جاری بندشوں کے بعد ہمارے مقامی چھوٹے کاروباروں کی حوصلہ افزائی کرنے اور ان کی مدد کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہم سب اس میں ایک ساتھ ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"کووڈ-19 وباء نے ہمارے چھوٹے کاروباری اداروں کو خاص طور پر شدید نقصان پہنچایا ہے اور شمال بزنس منتھ ہمیں برامپٹن کے ان مقامی کاروباری اداروں کی اہمیت کو پہچاننے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے جنہوں نے گذشتہ مہینوں کے دوران ناقابل یقین حد تک لچک اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں اپنے چھوٹے کاروباری اداروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اکتوبر کے پورے مہینے کے دوران BEC کی جانب سے فراہم کردہ پروگرامنگ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور ہم بزنس مائل سٹون پروگرام کے ذریعے ان کی داستانیں سننے کے منتظر رہیں گے۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"چھوٹے کاروبار ہماری کمیونٹی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ ہماری مقامی معیشت کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس شمال بزنس منتھ کے دوران، برامپٹن میں ان کے انمول کردار کا جشن منانے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور مقامی مال و خدمات کی حمایت کرنا یقینی بنائیں۔"

- پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن میں ہمارا عملہ کووڈ-19 وباء سے دوبارہ بحالی کے عمل کے دوران یک عظیم تر کمیونٹی کی تشکیل اور مقامی کاروباری اداروں کی مدد کے لیے وقف ہے۔ ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ ٹیم اکتوبر کے پورے مہینے کے دوران ہمارے چھوٹے مقامی کاروباروں کے لیے پروگرامنگ فراہم کرنے اور شمال بزنس منتھ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے شمال بزنس مائل سٹون پروگرام شروع کرنے کے لیے پرجوش ہے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](http://www.brampton.ca)، [فیس بک](http://www.brampton.ca) اور [انسٹاگرام](http://www.brampton.ca) پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

پراجوٹ کینتھ

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca